

Islamiat (Urdu Medium) - 11th Class Islamiat Chapter 4 Short Questions Preparation

Q1. دوسری صدی ہجری کی تین نامور کتب حدیث کے نام لکھیں۔

Ans 1: (الأثار : امام ابو حنیفہ (رح) 2، موطا: امام مالک (رح) 3، جامع : امام سفیان ثوری (رح) 1)

Q2. مفید علم کے فوائد بیان کریں۔

Ans 1: مفید علم کے بہت سارے فوائد ہیں، اس سے ایک خاص قسم کا انسان تیار ہوتا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر کامیاب ہوتا ہے۔ اس علم سے رضائے الہیٰ کا حصول، ایمانداری، وسعت نظر، اچھا اخلاق اور تعمیری و مثبت رویہ اختیار کرنے جیسی اعلیٰ صفات پیدا ہوتی ہیں۔

Q3. مسجد و مکتب کا مفہوم تحریر کریں۔

Ans 1: مسجد عربی کا لفظ ہے۔ یہ اسم ظرف مکان ہے۔ اس کے معنی سجدہ گاہ کے ہیں۔ اصطلاحی طور پر مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جو مسلمانوں نے نماز کے لئے مخصوص کر رکھی ہو، خواہ یہ عارضی طور پر ہو یا مستقل طور پر۔

Q4. پہلی نزول وحی کا واقعہ تحریر کریں۔

Ans 1: حضور (ص) عبادت الہیٰ کے لیے گار حرام میں تشریف لے جاتے تھے، جب آپ (ص) کی عمر چالیس برس ہوئی تو جبرائیل امین غار حرا میں تشریف لائے اور کہا: پڑھ آپ (ص) نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں۔ تین بار یہی سوال و جواب ہوتا رہا اور چوتھی بار جبرائیل امین نے آپ (ص) کو پکڑ کر دباہا اور چھوڑ کر سورۃ العلق کی پہلی پانچ آیتیں پڑھی اس طرح وحی کا نزول ہوا۔

Q5. قرآن مجید کی دو خوبئیں لکھیں۔

Ans 1: اس کتاب نے ان افراد اور اقوام کی کامیابی کی ضمانت دی ہے جو سچے دل سے اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں 2. قرآن مجید ایک سچی کتاب ہے اس کی دعوت اور پیغام بھی سچائی سے بھر پور ہے اس کے دلائل نہایت مضبوط اور مستحکم ہیں۔

Q6. امام مسلم (رح) کا پورا نام لکھیں اور سن وفات لکھیں۔

Ans 1: امام مسلم (رح) کا پورا نام مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری اور سن وفات 261 ہجری ہے۔

Q7. علم سے کیا مراد ہے؟

Ans 1: علم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی واقف ہونا، جاننا، سمجھنا وغیرہ کے ہیں۔ اصطلاح میں انسان کو جو معلومات حواس خمسہ سے حاصل ہوتی ہے اس کو علم کہتے ہیں۔

Q8. اسماء الرجال کی وضاحت کریں۔

Ans 1: اسماء الرجال سے مراد حدیث کی روایت کرنے والوں کے متعلق جاننا، کہ یہ روایت کس راوی سے مروی ہے اس کا کیا مرتبہ و مقام ہے ایسا عمل اسماء الرجال

کہلاتا ہے

Q9. علم سے متعلق کسی حدیث کا ترجمہ لکھیں.

Ans 1: "ترجمہ: "علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے

Q10. قرآن کریم کی سب سے بڑی اور چھوٹی سورۃ کے نام لکھیں.

Ans 1: قرآن کریم کی سب سے بڑی سورۃ البقرہ ہے اور سب سے چھوٹی سورۃ الكوثر ہے